

چوتھا مہینا، دوسرا ہفتہ، تیسرا دن **اسلیپس**: باب نمبر 8 (دوسرا نصف): مشق سوال نمبر 2

سوال نمبر 1۔ درست بیان کے سامنے "✓" اور غلط کے سامنے "X" لگائیں۔

(6)

i اچھی صحت کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔

ii پھلوں کو خشک کر کے استعمال کرنے کا طریقہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔

iii مختلف قسم کے تازہ پھل سارا سال دستیاب ہوتے ہیں۔



iv گھر کو صاف رکھنا صرف والدین کی ذمہ داری ہے۔

v اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کے ساتھ مناسب نیند بھی ضروری ہے۔

vi جان دار خوراک سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔

سوال نمبر 2۔ نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیں اور ان کے نام لکھیں۔

(2x2=4)



چوتھا مہینا، دوسرا ہفتہ، تیسرا دن **اسلیپس**: باب نمبر 8 (دوسرا نصف): مشق سوال نمبر 2

سوال نمبر 1۔ درست بیان کے سامنے "✓" اور غلط کے سامنے "X" لگائیں۔

(6)

i اچھی صحت کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔

ii پھلوں کو خشک کر کے استعمال کرنے کا طریقہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔

iii مختلف قسم کے تازہ پھل سارا سال دستیاب ہوتے ہیں۔

iv گھر کو صاف رکھنا صرف والدین کی ذمہ داری ہے۔

v اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کے ساتھ مناسب نیند بھی ضروری ہے۔

vi جان دار خوراک سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔

سوال نمبر 2۔ نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیں اور ان کے نام لکھیں۔

(2x2=4)

